

SONIAZID	آئونیازید	ICSC: 1258
CAS # 54-85-3 RTECS # NS1751850 UN # EC # EINECS# 200-214-6 UN Hazard class:	دیگر نام : Isonicotinic hydrazide Pyridinecarboxylic acid, hydrazide-4 فارمولہ : C ₆ H ₇ N ₃ O سالماتی وزن: 137.1	
ابتدائی طبی امداد اور آگ پر قابو پانہ	بچاؤ	خطے کی قسم
پاؤڈر، پانی کا سپرے، فوم کاربن ڈائی آگسٹنیڈ	کھلے شعلے اور سکریٹ نوشی خشی سے منع میں .	بلنے والا مادہ۔ بلنے پر سوزش پیدا کرنے والے یا زبردیلے بھارت (یا گیئیں) فارج ہوتے ہیں۔ آگ:
		دھاکہ:
تازہ ہوا میں لے جائیں، آرام دلائیں	گرد کو پھیننے سے بچائیں	جسم میں دائلہ:
خراب شدہ پھرے تار دیں پانی بھائیں پھر جلد کو پانی اور صابن سے دھوئیں	کل ایگر اسٹ یا آلات تنفس استعمال کریں	سانس کے راستے:
پہلے کھنی منٹ تک پانی سے اچھی طرح دھوئیں پھر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں .	حفاظتی دستاںے استعمال کریں	جلد کے راستے:
پانی سے منہ اندر سے صاف کریں . پانی میں Activated charcoal گھول کر پلانیں . طبی نگداشت کا بندوبست کریں .	ام کے دوران خود نوش اور سکریٹ نوشی مت کریں	نگلنے کی صورت میں: تو پہلے گلیا کر لیں تاکہ گرد وہم اور فریب کی کیفیت taxia
پیکٹ کرنا اور لیبل لگانا:	بچھنے کی صورت میں اقدامات:	
	گرے ہوئے مادے کو برتنوں میں اکھٹا کریں ضرورت ہو تو پہلے گلیا کر لیں تاکہ گرد نہ اٹھے احتیاط کے ساتھ بقیہ مادے کو اکھٹا کریں . پھر اس کو محفوظ جگہ پر لے جائیں (غیر معمولی ذاتی تحفظ، ضرر سال ذرات کے لئے P2 فلٹر والے ماکٹ کی ضرورت) .	
ذخیرہ کرنا:	ہنگامی اقدامات:	
اس کو اچھی طرح بند رکھیں . سر در رکھیں		
اہم معلومات پشت پر ملاحظہ فرمائیں		

اہم معلومات

طبعی حالت: سفید قلی پاؤڈر

کیمیائی خطرات: یہ مادہ گرم کرنے پر اور جلانے پر تخلیل ہو جاتا ہے اور زہریلے بخارات لشمول نامہروجن آسائید بناتا ہے

ہوا میں مقررہ حدود: TLV معین نہیں کی گئی ہے

جسم میں داغنے کے راستے: یہ مادہ جسم میں نگلنے پر جذب ہو سکتا ہے سانس کے راستے داغنے کے اثرات: 20 منٹی گریڈ پر تنفس برائے نام ہے لیکن بھیجنے پر خصوصاً پاؤڈر کی شکل میں ہوا میں ذرات کی مقدار خطرناک مدد کوچھو سکتی ہے

مختصر مدت کے لیے جسم میں داغنے کے اثرات: یہ مادہ اعصابی نظام اور گردول پر انداز ہو سکتا ہے جو بے ہوشی، مستی اور تیزی بہت پر فتنج ہو سکتا ہے بڑی مقدار میں بدن پر اثر انداز ہونے کا نتیجہ صورت میں برآمد ہو سکتا ہے۔ بدن پر اثر انداز ہونے پر بے ہوشی طاری ہو سکتی ہے

طویل مدت کے لیے جسم میں داغنے کے اثرات: یہ مادہ مرکزی عصبی نظام پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ جس سے عضلات پر زخم اور جسمانی نظام کی خرابی واقع ہوتی ہے

بے

طبعی خواص

نقاط پگھلاو: [170-173] منٹی گریڈ

20 منٹی گریڈ پر پانی میں حل پذیری (گرام فی 100 ملی لٹر): 12.5

محالیاتی اعداد و شمار

(Notes) نوٹس

اس کے کئی تجارتی نام میں

مزید معلومات:

LEGAL NOTICE

Neither the CEC nor the IPCS nor any person acting on behalf of the CEC or the IPCS is responsible for the use which might be made of this information.

© IPCS, CEC 1999